




حفاظت سے متعلق اہم معلومات



آپ کو ایک وقت میں
صرف ایک ڈرون اڑانے
کی اجازت ہے۔



آپ کو کنٹرولڈ ایروڈرومز
سے کم از کم 5.5 کلومیٹر
کا فاصلہ رکھنا ہو گا۔



آپ اپنے ڈرون کو دوسرے
لوگوں سے کم از کم 30
میٹر کے فاصلے پر رکھنے
کے پابند ہیں۔



آپ کے لیے زمین سے 120
میٹر (400 فٹ) سے زیادہ
اونچائی پر ڈرون اڑانا منع ہے۔



پیسے یا مالی فائدے کے لیے
ڈرون اڑانا غیر قانونی ہے،
سوائے اس کے کہ آپ کے پاس
ڈرون آپریٹرز سرٹیفکیٹ ہو یا
جب آپ 2 کلو سے کم مستثنیٰ
ڈرون یا پرائیویٹ زمین کے
مالک کی کیتگری میں ڈرون
اڑا رہے ہوں۔



آپ کو کسی ایسے علاقے کے
اوپر یا قریب ڈرون اڑانے کی
اجازت نہیں جس سے عوام
کی حفاظت متاثر ہو یا
جہاں ہنگامی کارروائیاں
جاری ہوں۔ اس میں ایسے
مواقع شامل ہو سکتے ہیں
جیسے گاڑی کا حادثہ، پولیس
کی کارروائیاں، آگ لگی ہو
یا آگ بجھانے کی کوششیں
جاری ہوں، اور لوگوں کی
تلاش اور بچاؤ کا کام ہو رہا ہو۔



آپ کو صرف دن کے وقت
ڈرون اڑانے کی اجازت ہے
اور آپ کو اپنا ڈرون اپنی نظر
کی حد میں رکھنا ہو گا۔
یعنی ضروری ہے کہ آپ
ہمیشہ اپنی آنکھوں سے
ڈرون کو دیکھ سکتے ہوں
(نہ کہ کسی آلے کی مدد سے)۔



لوگوں کے اوپر یا آبادی
والے علاقے میں ڈرون اڑانا
منع ہے۔ اس میں ساحل،
پارک، پروگراموں کے مقامات
یا کھیلوں کے اول شامل ہو
سکتے ہیں جہاں کھیل چل رہا
ہو۔



لوگوں کی پردہ داری کا احترام
کریں۔ اجازت کے بغیر کسی کی
ریکارڈنگ نہ کریں اور نہ
تصویر کھینچیں۔ یہ سٹیٹ
کے قوانین کی خلاف ورزی ہو
سکتی ہے۔

یاد رکھیں، آپ کے لیے اس
طرح ڈرون استعمال کرنا منع
ہے جس سے کسی دوسرے
ایرکرافٹ، شخص یا املاک کے
لیے خطرہ پیدا ہو۔

نئے قوانین کے عمل میں آنے کا مطلب ہے کہ ڈرون
چلانے والوں کے پاس مؤثر ڈرون پائلٹ ایکریڈٹیشن
سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے اور 250 گرام سے زیادہ
وزن کے ہر ڈرون کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔
مزید معلومات کے لیے دیکھیں

casa.gov.au/drone

مزید معلومات کے لیے droneflyer.gov.au پر جائیں